

وَلَا يَحِي مُصْيَبَةً أَحَدٌ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُحْسِنِينَ
 الْفَارِسِ الْمَأْمُورِ الْمَدْاعِيِّ الْكَافِلِ الْكَافِرِ الْمُجْنَانِ عَلَى
 خَلْقِكَ وَخَلْقِيَّتِكَ فِي أَرْضِنِكَ وَشَاهِدِكَ عَلَى عَبْرِكَ
 اللَّهُمَّ أَعْنُوكَ ضَرَّكَ وَمَدَّنِي عُمُرَكَ وَسَرَّتِنِ الْأَرْضَ طَوْلَ
 بَعْلَيْهِ اللَّهُمَّ أَكْفِهِ كُلَّ الْمُحَاسِنِيْنَ وَأَعْذُّهُ مِنْ كُلِّ
 الْكَاعِنِيْنَ وَأَنْزِهْ رَعْنَهُ إِذَا دَأَدَ الطَّالِمِيْنَ وَخَلْصُهُ
 مِنْ أَكْبَرِ الْجَبَارِيْنَ اللَّهُمَّ أَغْطِهِ فِي نَفْسِهِ وَصُرْكِيْهِ
 وَشِيعِيْهِ وَرَحْيِيْهِ وَخَاصِيْهِ وَعَامِيْهِ وَعَدْ وَهَ دَجَنِيْهِ
 أَهْلِ الدِّيَّا مَا تَقْرِيْهُ عَيْنَهُ وَتَسْرِيْهُ نَفْسَهُ وَلِغَلْفَاضِلِ
 مَا أَمْلَكَهُ فِي الدِّيَّا وَالْأَخْرَجَهُ لَكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ
 بَدِّلْ مَا أُمْلَيْتَ لِي مِنْ دِيَّنِكَ فَأَمْلِي مَا يَدِلُّ مِنْ سِكَانِكَ
 وَأَنْظِهِي مَا حَلَّ مِنْ حُكْمَاتِ حَتَّى يَعُودَ دِيَّنِكَ وَسِرْكِيْهِ وَعَدَ
 يَدِيْهِ غَصَّانِ حَدِيدَ الْحَالِصَانِ خُلْصَ الْكَاشِكَ فِيهِ وَلَا
 شُبْهَةَ مَعَهُ وَكَلَّا بِمَلْ عَنْكَ وَلَأَبْدَعَهُ لَدِيْهُ وَاللَّهُمَّ
 لَوْلَيْتُ مُؤْمِنًا كُلَّ ظُلْمَةٍ وَهَلَّ بِرُكْنِكَ هُلَّ بِدَعْلَةٍ
 وَأَهْدِيْلُ بِعِزَّتِهِ كُلَّ ضَلَالَةٍ وَأَتُصْمِيْهُ كُلَّ جَهَارٍ
 وَأَخْمُدُ بِسَيِّفِهِ كُلَّ شَارِقًا هَلَكَ بِعَذَابِهِ كُلُّ حَاجَارٍ

بِالْأَنْكَارِ
 وَفِي
 الْأَنْكَارِ

ألا جر حسبي عذابك حكمك داخل بسلطانه كل سلطان
 أللهم إذن لك من نقاوة وأهلك كل من عادك وأمتك يمن
 كاده واستأصل من يحمل لاحقك واستهان بأمره بغير
 فاطلتك لورها فاراد احتماد ذكره أللهم صل عل محمد
 والمصطفى وعلي دائر تصي وفاطمة الورثة والمسن
 الرضاع والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصطفى
 اللهي وأعلم الهدى ومنار النهى والعروفة والفتح
 والحبيل المستعين والقراط المستقيم وصل عل
 قلتك وقللة عهلك ولا يعنتك من ولدك ومدنه
 أعمادهم وزر ذي الجالهم وبعدهم أقضى أمالهم
 في دنيا وآخر لائكن عل كل شيخ قبلي وشیخ
 طوسی وسید بن طاؤس رحمۃ الشریعہ از حضرت صادق علیہ السلام
 کرد اندکه هر که خواهد قبر حضرت رسالت ر و قبور ائمه علیہم السلام
 زیارت کند در شهر خویس در روز جمعه غسل کند و دو چاهه پاکنده
 پوشد و بیرون رو بسو بیابان و صحراء پس چهار گفت ناز
 بند بد وسلام و ہر سورہ که میسر شود سخواند پس لمع اسلام دویم
 ر تقبلہ بالستد و گویا السلام علیک آیتک النبی و رسیخک الله

تَبَارَكَ اللَّهُ الْمَلِكُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ وَالْوَحْيُ
 الْوَقْتُ وَالسَّيِّدُ الْكَبِيرُ وَالنَّبِيُّ الْأَكْرَمُ وَالرَّحْمَانُ
 وَالنَّبِيُّ الْمُبَشِّرُ وَالْمُنْذِرُ وَالْمُنْذِهُ وَالْمُنْذِرُ
 الْمُنْذِهُونَ حَتَّىٰ افْتَأَلَ لَكُمْ وَلَأَنِ ابْنَائِكُمْ وَوَلَدَكُمْ
 الْعَلَفُ عَلَى بُرْكَةِ الْحَقِّ فَقْلُبُكُمْ كَثُرٌ مُسْلِمٌ وَلَصُوبٌ
 كَثُرٌ مُعَذَّلٌ لَا حَثَّ يَحْكُمُمُ اللَّهُ لِلَّذِينَ فَدَعُوكُمْ
 سَعْكُمْ لَا مَعْدَلٌ وَكُمْ رَأْيٌ لَوْمَنَ الْقَاتِلِينَ لِغَضَبِكُمْ
 مُغَزِّيٌّ بِرَحْبَرِكُمْ لَا نَكِرُ مِنْهُ قَدْرَةً وَلَا نَعْلَمُ لَأَنَّ
 مَا سَأَلَ اللَّهُ بِسَبَّاحَنَ ذِي الْمُلَائِكَةِ وَالْمَلَكَوْتِ بِسَبَّاحَنَ اللَّهِ أَسْمَاهُ
 جَمِيعُ خَلْقِهِ وَالْكَلَامُ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَاجْتَمَاعُكُمْ
 وَالْكَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبُرْكَةُ اللَّهِ وَرَوَايَتُ
 دِيْگَرِ این زیارت را در بازدید خود کن و در کتاب عروس آن
 حضرت صادق ع روایت کرد و است که سلمان فارسی در در
 روز جمعه پیغمبر مسیح نگذشت پس ایجاد و گفت الشکر علیکم
 یا آهُل الدِّيَارِ فَعَمَّ حَارِفُوهُ وَمُؤْمِنُونَ یا آهُلَ الْجَمِيعِ
 هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَوْمَ جَمِيعَهُ يُنْهَى سَلَامٍ بِرَثْمًا بِإِدَاءِ
 اهْلَ خَازِبَهُ حُبَّ خَازِبَتْ قَبْرَهَا سَعَى مَوْنَانَ اسْعَى گَرَوْهَ آسَا

میدانید که امروز جمعه است چون بخانه برگشت خوابیدیکے از مرگان
 آن قبرستان بخواب او آمد و گفت پاپا عبد اللہ آمد بمنون
 در پاسلام کردے و ما جواب سلام تو گفته بگفت که میدانید که
 روز جمعه است میدانم و این راهنم میدانم که مرغان در روز
 جمعه میگویند سبتوح قلْ وَسَلِّمْ رَبَّ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْحَمَ
 رَحْمَتُكَ لِغَضَبَكَ مَا عَرَدَكَ حَمْنَاتُكَ مَنْ حَلَفَ لِيَا هَلَكَ
 کاذبَأَيْنَهُ ظلمَتْ تِزَانِي وَاندکسیکه قسم دروغ نام مقدس
 یاد می کند و لبست معتبر امام محمد باقر موقول است که
 زیارت کنید مرگان را در روز جمعه که میدانید نش که پذیرای
 ایشان رفت اسنده بشاد می شوند و در بر واسیت دار و شهادت
 که هر که تبریز و مادر فوراً بایکے از ایشان را در روز جمعه زیارت کند
 آمرزیده شود و ارایه کار بیدر و مادر بخوبیه در کتاب
 روضه الا ذکار زکر دادند که چهار رکعت نماز زیارت
 کند با مشعر رکعت بامشت رکعت و این افضل است و اقل
 در رکعت نماز کند بعد از این رو بجانب مشهد حضرت امام حسین علیه
 السلام کند و گویند آنامواد علیک یا اموال کامی و این موارد
 سپیلی و این سپیلی یا علیق بن الحسین و مودع علیک

يَا مَوْلَانِي يَا مَعْتَزَ الشَّجَدَةِ فَعَلَيْكُمْ سَلَامُ اللَّهِ
 وَرَحْمَتِهِ وَبَرَكَاتِهِ أَتَأْتَيْتَ صاحِبَ الْأَمْرِ رَوْزَ
 جَمِيعِ ازْجَلِهِ سُنْتَ مُوَكَّدَةً إِسْتَبْلَكَ شِعْرَ شَيْدِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَكِتابَ
 دُرُوسَ كَذْكَرَهُ كَسْتَبَهُ إِسْتَبْلَكَ شِعْرَ شَيْدِ رَحْمَةِ اللَّهِ وَكِتابَ
 دَرَهْ مَكَانَ وَدَرَهْ زَمَانَ وَچُونَ رَوْزَ جَمِيعِهِ مَخْصُوصَ الْأَنْفُسَ
 إِسْتَبْلَكَ شِعْرَ زَيَارَتِ آنْفُسَتَ دَرَانَ رَوْزَ مُوكَّدَةً
 وَزَيَارَتِ آنْفُسَتَهُ اِنَّ إِسْتَبْلَكَ سَلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبَبَهُ
 اللَّهِ فِي أَوْضِيَهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ الَّذِي يَهْبِطُ لَيْهِ
 الْمُهْتَلِّ وَنَ وَلَيْقَرَبُهُ يَهِ الْمُؤْمِنُونَ أَسَلَامُ عَلَيْكَ
 أَيُّهَا الْمُهَلَّ بِالْخَافِقَ أَسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
 الْوَلِيُّ النَّاصِحُ أَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَفِينَةَ النَّجَاةِ
 أَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْحَمْوَةِ أَسَلَامُ عَلَيْكَ
 يَا مَعْنَى الْعَلُوِّ وَالْبَوْيَةِ أَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْضِعَ
 الْأَنْوَرِ التَّبَانِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ
 الطَّيِّبَيْنَ الطَّاهِرَيْنَ أَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَانِي بَعْلَى
 اللَّهِ لَكَ مَا وَعَدْتَ لَكَ مِنَ النَّصْرَ وَظُهُورَ الْأَمْرِ

أَلْعَدْكُمْ عَلَيْكَ يَا مُؤْلَىٰ إِنَّا مُولَىٰ إِنَّكَ عَلَيْكَ بِأَوْلَادَكَ قَ
 أَخْدُوكَ أَقْرَبُ لَهُ شَهْرُكَ وَيَا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ فَإِنَّكَ تَظْرِ
 ظَهُورَكَ تَحْظُّهُ الرَّحْقُ عَلَيْكَ يَدِيْكَ وَاسْتَغْشَى اللَّهُ أَنْ يُصِّ
 عَلَىٰ حَمْدِيْكَ وَالْمُحَمَّدِيْكَ قَدْ يَجْعَلُكَ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ
 لَكَ وَالْتَّابِعِيْنَ وَالثَّاصِرِيْنَ لَكَ عَلَىٰ أَعْدَى اِئِمَّةِ
 وَالْمُسْتَدِّشِيْمِ لِيْلَيْنَ يَكِيْنَ يَدِيْكَ فِي جَهَنَّمَ لَكَ وَلِيَاعِلَّكَ
 يَا مُؤْلَىٰ يَا صَاحِبَ الرَّزْمَانِ صَلَوَاتُ اللَّهِ
 عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ هَذَا يَوْمُ الْجَمْعَةِ
 وَهُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَفِّعُ فِي هُوَ طَهُورُكَ وَالْفَرَجُ فِي هُوَ الْمُغْسِنَ
 عَلَىٰ يَدِيْكَ وَقَمْلُ الْعَادِرِيْنَ دَسِيفِيْكَ وَأَنْكِيْا مُؤْلَىٰ إِنْ كَفِيْهُ
 طَيْفُكَ وَجَازِلُكَ وَأَنْتَ يَا مُؤْلَىٰ كَمْ لِيْلَيْنَ أَنْ كَلَّا الْكَرْمَ
 وَكَمْ مُؤْجِرٌ يَا لِلْجَارَةِ قَاضِيْقُونِيْ وَأَجْزِيْنِيْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ
 وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ الظَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ دَعَى سُرْرَنْ جَمِيعَهُ

ارْضَرَتِ الْأَمْرَيْنِ الْعَابِدِيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمْ ازْلَمَتِ صَحِيفَةَ
 كَمْ عَلَمَ اسْتَدِيرِهِ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَكْبَرُ
 قَبْلَ الْأَسْقَاءِ وَالْأَحْيَاءِ وَالْأُخْرَيْ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ الْعَلِيِّيِّ
 الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ وَلَا يَغْصُ مَنْ شَكَرَهُ وَلَا يَخْبُرُ

صَنْ كَعَادَةَ وَكَانَ يَطْهُرُ سَجَاهَةَ مِنْ رَجَاهَا هَمْ لَاتِيْ أَشْهِدُكَ
 وَكَفَىْ بِكَ شَهِيدًا وَأَشْهُدُ بِجَمِيعِ مَلَائِكَتِكَ وَرَسُولِكَ
 وَسُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ وَحَمَلَتِكَ عَزِيزِ شَيْكَ وَمَنْ بَعْثَتَ
 مِنْ آنِبِيَا عَلَيْكَ رَسُولِكَ وَسُكَّانِ سَمَاوَاتِكَ وَحَمَلَهُ
 عَزِيزُ شَيْكَ وَمَنْ بَعْثَتَ مِنْ آنِبِيَا عَلَيْكَ رَسُولِكَ وَآشَاءَ
 مِنْ آضَاءِ خَلْقِكَ لَتِيْ أَشْهَدُكَ لَكَ مُسْلِمَةً لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 وَخَلَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا يُمْكِنُ لَكَ وَلَا خَلْقٌ لَقَدْ قَالَكَ لَا تَبْدِيلَ
 وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدَهُ وَ
 رَسُولَكَ أَدْلَى مَا حَمَلْتَهُ لِإِلَيْكَ عِبَادَ وَجَاهَدَ
 فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْجَهَادِ وَأَنَّهُ بِشَرِّ مَا هُوَ
 حَقٌّ مِنَ التَّوَابِ وَأَنَّ رُبِّهِ مَا هُوَ صِدْقٌ لِمِنَ الْعِقَابِ
 الَّهُمَّ شَبَّثْتُنِي عَلَى دِينِكَ مَا أَحْبَبْتُنِي وَلَا تُؤْخِذْ
 قَدْرِي بَعْدَ لِادْهَدْتِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 تَرْحِمَةً لَأَنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ الَّلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ اتَّبَاعِهِ وَشِيَعَتِهِ
 وَاحْتَسِرْنِي فِي مُرْمَرَتِهِ وَوَقِيقَتِي لِادْعَاءِ فَرِضِ
 الْجُمُعَاتِ وَمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِ فِيهَا مِنَ الطَّاغِيَاتِ

وَقَسْمَتْ لَا هُلُّهَا مِنَ الْعَطَاءِ لِيَوْمِ الْجَنَاحِ إِذَا مَكَنَ
 أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْبَيِّنُ وَرَزْ جَمِيعَهُ كُلُّ شَيْءٍ
 طَوْسِي رَوْحٌ كَفْسِي رَوْدِيْرَانْ هَمْ نَقْلٌ كَرْدَهُ اندَطَابُ اللَّهِ
 شَاهِمُ دِسْتِهِرُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ
 مَنْ لَيْسَ الْعَزَّوْ فَأَنْزَابِهِ سُبْحَانَ مَنْ نَعْطَفُ
 بِالْمَجَنِّ وَنَكْرَهُ قَرِبِهِ سُبْحَانَ مَنْ كَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ
 يُعْلِمُهُ سُبْحَانَ ذِي الْطَّوْلِ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ
 ذِي الْمَنْ وَالْعَجْمِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَوْزِ
 أَللَّهُمَّ لَيْسَ كَسْكُوكَ يَمْعَاقِدُ الْعَزِيزُ مِنْ عَزَّزَ شِكَرَ دُنْتَهُ
 لِرَحْمَةِهِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِإِسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَفِيْكَ
 الْأَعْلَى وَبِكَلِمَاتِكَ الْأَنَّامَةُ وَتَمَتَّ كَلِمَاتُكَ صِدْرُ
 وَعَدْ لَا لَهُ مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِكَ لَا لَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْكَرِيمُ يَادُ الْجَلَالِ وَلَا لَكَ أَكْرَاهُ أَسْكُوكَ يَمْعَاقِدُ
 شَيْئَعَهُ مِنْ مَسَائِلِكَ لَمْ تُصَلِّ عَلَى حُمَّادِ وَالِّ
 حُمَّادِ وَقَانْ تَجْعَلُ لِي مِنْ أَمْرِي فَرْجَاجَا وَفَخْرَاجَا
 وَلَمْ تُؤْسِعَ عَلَى هَرِزِ وَقِيْ فِي لِيْسِرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٌ سُبْحَانَ
 الْحَقِّ الْحَكِيمِ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ

الْوَالِدَيْتُ سَبِّحَانَ اللَّهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سَبِّحَانَهُوَ
 بِحَمْدِهِ أَللَّاهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى الْبَرَّاقِيَّةِ
 وَآلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَنَّكَ حَمِيدُكَ حَمِيدَ عَوْذَةُ
 رَوْزَ جَمِيعَهُ كَشِيعِ طُوسِيِّ لَوْرَادِ مُرْتَدَةُ
 وَمُصَبَّاجِ شَجَدَةِ وَرَدَهِ لِسَمِّاَ اللَّهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 أَسْعِيدْنَ لَفْتَنِي بِرَبِّ الْمَسَارِقِ وَالْمَعَارِقِ
 مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَا رَأَيْتُ وَقَاتِلْهُوَ قَاعِدْ حَمَاسِدَ
 وَمَعَانِدَ وَيَدِلَّ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّكُونِ مَائَةً لِيَطْهُرَ
 يَهُوَ قَدِينُ هَبَ عَنْكُمْ سِرْخَرَ الشَّيْطَانَ وَلِيُرِيَطَ عَنْكُمْ
 قَلْوَبِكُمْ وَيُنَيِّثَ يَهُوَ الْأَقْدَامَ وَكُضْ بِرِجْلَكَ
 هَذَا مُعْتَسَلُ كَبَارِدَهُ وَشَرَابِكَ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ
 مَائَةً لَكَهُوَرَ الْعَيْنِي يَهُ بَلَدَهُ مَيْتَانَ وَشَقِيقَهُ يَعْقَمَا
 خَلَقْنَا آنَعَمَادَهُ مَا نَسِيَ كَيْنَيْدَهُ الْآنَ خَفَقَ اللَّهُ
 عَنْكُمْ ذَلِكَ تَحْقِيفُهُ مِنْ تَرْبَكُوهُ وَتَرَحَّمَهُ يَرِيدُ اللَّهُ
 أَنْ يَخْفِفَ عَنْكُمْ فَسَيَكْفِيَهُ كَهُمُهُ اللَّهُ وَهُوَ
 الْمُسَمِّيَهُ الْعَلِيُّهُ الْأَكْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَالِيُّ عَلَى

آمِرَهُ لَكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِعِزْلَةِ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ
وَأَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْلَفَانًا

در بیان فضل سوره هاست که

سُنْنَتٌ اسْتَكَهْ در روز جمعه بخواند

پیغمبر طوسی رحمه و الشکر گفته است که سنت است بعد از نماز جمعه
روز جمعه صد مرتبه سوره توحید بخوانند و صد مرتبه صلوٰه بر محمد و آل
محمد افزایش دهند و صد مرتبه استغفار بکنند و سوره ناس و سوره ہود
و سوره کهف و سوره صافات و سوره رحمن بخوانند +
و بحسب معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام منقول است
که هر که سوره ناس را در هر جمعه بخواند از فشار قبر این گرد و از حضرت
امام محمد باقر علیه السلام منقول است که هر که سوره ہود را در هر جمعه بخواهد
حق تعالیٰ در قیامت او را در زمرة پیغمبران محسنوگردا نمود
و کنایا نماین که کرده است در دنیا باونگ نمایند که کرده و از حضرت
صادق علیه السلام منقول است که هر که سوره مومنین را در هر جمعه
نماید خدا خشم اعمال او را بسعاوت بکند و منزل

اور فروس اعلیے با پیغمبر ان و مرسلان باشد و قرآن حديث
 دیگر فرموده که هر که سوره صافات در هر روز محبه سخواهند پوچش
 محفوظ باشد از هر آنسته قدر پلا در حیات دنیا از ورقع شود
 و روزی بر وکشا و هر گردد در نهایت فراوانی دنیه رسیده
 به سی شوریدن او و نه در مال او و نه در فرزندان او و نه از
 شیطان لیعنی دنیا از جباران معاند و اگر دران روز یاران
 شب بپیرد خدا اور اشیعید سجوت گرداند و شیعید بپیرد
 و پاشیدان در بیت در کیم در جهه باشد و فرمود که هر که در
 هر شب محبه یا در هر روز محبه سوره احتفاف سخواهند تریسے
 در دنیا با و نرسد و از فرع اکبر قیامت این گردان شارش
 تعالیٰ صاحب دسائل از حضرت امام جعفر صافی
 نهایت کرده هر کو سوره اعراف را در روز محبه سخواهند غیر حساب
 و داخل حیث شود محمد بن سقیوب کلینی در کافی
 آورد که یک سوره که هفت را بعد نماز ظهر و عصر سخواهند همچو
 آئینده گز لا لش امر زیده شوند و لبنت صحیح از حضرت
 صادق علیہ السلام مروی است که سخت است که بعد
 از نماز صحیح روز محبه سوره رحمی سخواهند و هر کیمی

الکوئت تکمای نکن بان گوید لا پیشی من اکا ڈلک ترتیب الکتب
 و در کتاب عروس این روایت را فقط وجوب روایت کرده است
 و حمل بر احتساب موکد کرده اند و مقول است که هر کس سوره که نهاد
 بعد از عصر فوج عجیب و زیب خواهد کنایه گذاشت این او باشد از جمیع تا جمیع آنند
 و دیگر در کتاب عروس روایت کرده است از حضرت امام حسین علیہ
 السلام که حضرت رسول ﷺ گفت که آپ اکرسی در آسمان برلوی
 از زمر و سبز لون است بهادم که شخص خدا است و در
 هر روز جمیع آن لوح بر پیشانی حضرت اسرافیل می خورد پس
 اسرافیل می گوید سُبْحَانَ رَبِّنَا لَا يَكُبُرُ النَّسِيْرُ لَا إِلَهَ
 وَلَا إِعْبَادُ وَالْخُصُوصُ عَلَى لَا يَوْجِعُهُ وَذَلِكَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
 الْوَاحِدُ الْعَزِيزُ چون این تسبیح را می خواند هر یک کسی که در آنها
 هست خدا را تسبیح و تبلیل می کند پس همچ یک مکان قرب
 و پیغمبر مسلم نی نماید مگر آنکه دعا می کند برای کسی که
 آپ اکرسی علی التشریف بخواهد و آن حضرت صادق ع روایت
 کرده است که حضرت امام زین العابدین ع چون روز جمیع
 می شد آپ اکرسی می خواند تا نظر و چون از نمازها فارغ می شد
 شروع می کرد بخواندن سوره انا از زمانه و آن عبده اشد این

روایت کردہ است کہ گفت اور مخدوم خدا مام سین عہد گفت
 حضرت رسالت ہر را بے درخواپ دیدم گفت اے دختر تازی
 علی خود را سبک مگر دان و سلیمان کن آزاد بخواند آئیہ الکرسی
 کو پیچ کس زراہل من نبی خواند این آئیہ را مگر آنکہ کہا شنا فریں
 بالماں کہ بخوش می آئند و صد امتیجع و تقدیس و تبلیغ و تجدید
 بلند می کفند و پڑے او دعائی کفند کہ حق تعالیٰ لگنا ہاں او
 پیامزد و حضرت امام جعفر صادق ہ فرمود کہ حضرت علی بن
 احسینی سوگند بادی کرو کہ ہر کہ پیش از زوال اتفاق بنتا و قریب
 آئیہ الکرسی بخواند کہ مرتبہ بنتا و مصل بزوال گرد و حق تعالیٰ
 لگنا ہاں گذشتہ و آپنہ کہ اور اپیامزد و اگر وہ ان سال بگذاشت
 آمر زیدہ پاشد و در روز قیامت اور اصحاب کفتہ و رأی الکرسی
 علی التنزیل اینیت اللہ لا إله إلا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ
 لَا تَأْخُذُ كُمْ سِنَةً وَلَا تُؤْخُذُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا لَمْ يَكُنْ
 الشَّهَادَةُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْرِهِمْ أَحَدًا مَنْ ذَلِكَ الَّذِينَ
 يُشَفَّعُ عَنْهُمْ كُمْ لَا يَرْدُنُهُمْ فِيهَا حَالُ الدُّوْنَى
 مؤلف کو بدل کہ برداشت علی بن ابراهیم و مکینی آئیہ الکرسی

علی التَّنْزِيلِ جَيْشٌ أَسْتَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا لَمْ يَرَ هُنَّ عَالَمُونَ الْغَيْبُ وَالشَّهادَةُ
 الْجَحْدُ الْجَحْدُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي تَاهُمْ فِيهِ لَهُمْ قَالُونَ
 بَعْدَ إِذَا نَاهَنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْهُ خَصُوصٌ
 لِّيَنْ مُوَاضِعَ بَيْكَيْهِ ازْيَنَ دُورُوشْ بِخُواندِ شَايدِ پَنْبَا شَدَو
 وَأَنْهُ بُرُوشْ مُشْهُورْ بِخُواندِ شَايدِ احْوَاطْ بَاشَدَآ ما درْ تَلَاقِتْ بَحْفَ
 بَايدِ بُرُوشْ مُشْهُورْ بِخُواندِ وَشِيشِنْ زَرَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ
 قَدَسْ رَوْحَهِ رَوْاهِتْ كَرْدَهِ اسْتَ ازْ حَضْرَتْ رَسُولُهُ كَهْ كَهْ
 دُورُوزْ جَمِيعَهِ سُورَهُ كَهْ بِخُواندِ تَاهِشَتْ رُوزْ خَدَا اوْ رَا ازْ
 كَنَا باَنَ وَبَلَا هَا حَفْظَنَا يَدِ دَأْگَرْ دَجَالْ خَروْجَ كَنَهْ باَوَاسِيْ
 خَرَسَدَ وَهُرَكَهِ سُورَهُ دَفَانَ رَادِرِشَبْ جَمِيعَهِ باَرُوزْ جَمِيعَهِ بِخُواندِ حقَّ
 تَعَالَى بَرَاسَهِ اوْ دَرِبَهِشَتْ خَانَهِ بِنَانَكَنَهِ دَهُرَكَهِ سُورَهُ آلِ عمرَنَ
 دُورُوزْ جَمِيعَهِ بِخُواندِ حقَّ تَعَالَى دَمَلَاكَهِ بَرَادِ صَلَواتِ بَفَرِيدَ

تَاهِتَابْ غَرَوبَ كَنَدَ

بَيَانُ تَعَالَى عَاهَهَا وَعَمازَهَايِ رُوزْ جَمِيعَهِ

سَيِّدِ بْنِ طَافُوسِ ازْ حَضْرَتْ رَسُولِهِ رَوْا يَهْتَهِ كَرْدَهِ اسْتَيْكَ

پر بعد از نماز صبح در روز جمعه پیشینه و مشغول تعقیب باشد تا
 آنرا ب طالع گردد در فروس اعلیٰ مقام در جهه برای او ملبت
 گرد که از هر درجه تا درجه و گیگر مقام سال راه باشد به دین
 اپسے که برای دو اندان فرجه کرده باشد تو در حدیث و گیگر
 فرموده که روز جمعه روز نماز است هر که بعد از آنکه آنرا ب
 مقدار کمی نیزه بلند شود یا بیشتر و روکعت نماز خالص از
 برای خدا کمیند دولیت حسن برای او لذت شود و دو دیت
 گناه محظوظ دهد هر که رشت رکعت نماز کمیند حق تعالیٰ را رشت
 رشت صدر در جهه برای او بلند کند و جمیع گناهانش را بیامزو
 و هر که دوازده رکعت نماز کمیند نهار و دو دیت حسن برای
 او لذت شود و هزار و دو دیت گناه از و محسوس شود و هزار و دو دیت
 در جهه برای او در رشت بلند گرداند و شیده طویع
 رسمه الشدر را پیت کرده است که است این عبارت نماز صبح
 روز جمعه بخواند اللهم لات لعمك ث لا ينك بخاجةتی و
 آتنيك الیک الیک فقیرتی و فاقیرتی و مسلکتی قاتنا
 لمعفیتات آرت بجزی صنیع لعمیل و لمعفیت ایک و رحیم
 او ستم من ذلولی فتویل قضایا کل حاجتی لی

بِقُدْنَةِ تَارِكٍ عَلَيْهَا وَتَيْسِيرٍ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَلِفَقْرِئِهِ إِلَيْكَ
 فَإِنَّكَ لَمْ أَحْسِبْ خَيْرًا أَوْظَلَكَ الْأَمْنَى وَلَكَ رِيَاضَتُ
 حَتَّىٰ سُونَّةَ قَطْنَا أَحَدَ عَيْلَكَ وَكَثُرَتْ آرْجُونَ لِلْأَخْرَى
 وَذُنُوبَنَا مَغْلَىٰكَ وَكَلَّا لِيَوْمَ فَقْرِئِي يَوْمَ يُفَرِّدُ
 النَّاسُ فِي حَفْرَتِنِ وَمُفْضَىٰ إِلَيْكَ بِلَبْنَىٰ سَوَالِكَ
 وَسَيِّدُ بْنُ طَاؤِسٍ رَحْمَةُ اللَّهِ بِنَمَاءَتِ
 مُعْتَبِرًا مِنْ حَضْرَتِ اَمَامِ حِبْرِ صَادِقٍ هُرَوَّا يَتَ كَمْ كَرَ
 بَعْدَ اِزْنَازِ صَبَحِ رُوزِ جَمِيعِ هَرَبَّ اِزَانَ كَمْ سَخْنَ بَجْوِيَّ اِينَ دَعَانِجَوَانَدَ
 اَللَّهُمَّ مَا فَلَكَ فِي جَمِيعِنِي هَذِهِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ حَلْفَتِ
 فِيهَا مِنْ حَلْفِ اَوْ نَكَرَتِ فِيهَا مِنْ نَكَرِ قَمَشِيَّتِكَ
 بَيْنَ يَدَيِ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَا شِئْتَ مِنْهُ اَنْ تَكُونَ
 سَكَانَ وَمَا لَمْ تَشَاءْ مِنْهُ اَنْ تَكُونَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
 وَتَحْجَدْ اَزْنَعَنِي اَللَّهُمَّ مَنْ صَلَيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَوَتْ
 عَلَيْهِ وَمَنْ لَعَنْتَ فَلَعَنَتِي عَلَيْهِ وَكَفَارَهُ اَنَاهَانَ
 اوْ يَا شَدَّا زَجْبَرَهُ اَجْبَرَهُ دَكَرَهُ دَرَبَرَهُ بَيْتَهُ دَرَبَرَهُ
 مَاهِنَ بَاشَدَهُ بَنَدَهُ مُعْتَبِرًا مُحَمَّدَ بْنَ سَانَ رَوَّا يَتَ كَمْ رَضَامَهُ
 كَمَ اَسْمَاحَهُ بَنَانَ اَمْرَوْزَهُ عَاصِي وَاجِلَّهُ اَمَّا زَمَرَهُ وَاهَنَ رُوزِ جَمِيعِهِ

أَتَيْتُهَا

لِمَ

شَكَرٌ

فِي الْمَلَكِ

عَنْدَهُمْ

الْجَنَّةِ

أَمْنَدَكُمْ

مِنَ الطَّاغِيَةِ

مِنَ الشَّرِّ

وَمِنَ الظَّرَبِ

وَالْعَذَابِ

جَنَاحُهُمْ

وَطَرْقُهُمْ

سَهْلُهُمْ

عرض كرم آن دعا بهشت فرسوده گبو استاد را علیک از
آنکه اشتمل لطایعه و المؤثر الفاضل البهی امید
یتوسیحیدی لله لي تكون شاهدی لا ظهر الرتب
بغضیل الفضلاء و قی العالم الجد یدی اللهم لان
اعوذ بک و بنور وجهک الکریم آن شوکه خلیع
و آن تردد در ذمی فی العذاب بنورک المجنوب
عن کل ناظر تویز قلبی فی آن اتعبدک و سعی
قبضتک و کسرتک بی سوالک اللهم لان انقر
لایک بقلوب خاصیم ولای و لیک بین خلیع
ولای الاریمه الرعاشیان بیغواه مسواضع و
لای اشکانک اکرام و انجام الکعزه بالدین
و اسرعهم آنچنی لیعن و تحملک و کلام اللهم عذر
و کاخالق سوالک و صدر خلیع لایک ایله
امیریان و آنچن عنک کل صنیع و نیز فکانی
اتاعبدک الدینک المعرف یدی نوی و اسلک
ایستادی حظها عین و تحملیصی عن الاذ ناس
و لازما رساله و سپاهی قد اقطعنت عن خودی الغرض

تَوَسَّلْتُ بِكَعْنَآهْلِ الدَّيْنِ مُتَعَزِّزًا بِالْمَعْرُوفِ
 مَعْرُوفًا لِغَيْرِيْ وَهُمْ عَمَّنْ سَوَاكَهُ وَمَنْ قُولَهُ أَتَ
 كَمْ سَهْرَكَهُ مَهْشِيْ ازْ طَلَوْعِ آفَاتَابَ رُوزِ جَمِيعِ دَهْ مَرْتَبَهْ سُورَهْ قَلْ بَلْ
 اَهْدِيْ بَخْوَانِدَ دَعَا يَشْ سَتْجَابَ گَرْ دَوْقَسِيدَ بَنْ
 طَأْوَسَ حَمْدَهَا حَضْرَتَ رَسُولَ صَدَاهُرَ روَايَتَ
 كَرْدَهَ أَسْتَ كَهْ بَحْضَرَتَ اَبِيرَ الْمُؤْسِنِينَ وَفَاطِمَهْ زَهْرَ اَصْلَوَاتَ
 الْمَدَهْ سَلَامَهْ عَلَيْهَا فَمُودَهْ كَهْ مَهْ خَوايِهْ شَهَارَ اَخْصُوصَ كَهْ دَانِمَ
 بَاهْرَهْ بَهْ كَهْ خَدَاهَهْ تَعَالَى مَرَأَتِيْلِهِمَ فَمُودَهْ بَاهْرَهْ كَهْ حَفَظَ
 نَهَيِهْ كَهْ فَقَدَهْ لَفَزْ بَاهْهَهْ كَهْ چَيْتَ فَمُودَهْ دَوْرَهْ كَهْ تَازَكَهْ بَنِيدَ دَوْرَهْ
 هَرَكَعَتَ بَعْدَ اَذْ فَانِيْهَهْ سَهْ مَرْتَبَهْ آيَهَا الْكَرْسِيَ وَسَهْ مَرْتَبَهْ قَلْ
 هَمَا لَهْدَهَا حَدَهْ سَهْ مَرْتَبَهْ آيَاتَ آخِرَ حَشْرَيْهِهْ كَهْ اَنْزَلَهَا
 هَدَهَا الْقُرْآنَ عَلَى الْجَبَلِ تَا اَخِرَ سُورَهْ بَخْوَانِهْ وَبَعْدَ اَذْ نَهَادَ
 بَهْ بَسِيدَهَا لَهُمْ لَهُمْ اَنْ اَسْعَلَكَ بِحَقِيقَهْ كُلَّ اَسْتِمَهْ هَوَ لَكَ بُحْيَيْهْ
 عَلَيْكَهْ فِيهِ لِحَاجَتَهَا الدَّعَلَهْ لَذَا دُعَيْتَ بِهِ وَاسْعَلَكَ
 بِحَقِيقَهْ كُلَّ ذَيْهِ حَقِيقَهْ عَلَيْكَهْ وَاسْعَلَكَ بِحَقِيقَهْ عَلَى جَمِيعِ
 مَنْهُ هَوَ دُوْنَكَهْ آنَهْ لَفَعَلَهْ كَهْ كَلَهْ وَكَدَهَا اَپَسَ
 حَاجَتَ خَوْرَا فَكَهْ بَنِيدَ تَهْمَازَهْ بَهْ بَرَكَشَنَهْ وَسِيدَ حَمَدَهَا شَرَعَلِيْهَا

از حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام روایت کرد و اندک حضرت
 رسول خدا هر فرود که به خواهد فضیلت روز محمد را صریح
 باید که پیش از ظهر حجرا برگعت نماز کنند و در هر گفت فاتحه
 لیکار دعایة الکرسی و سوره توحید هر کیم پانزده مرتبه خواند
 و چون از نماز فارغ شود هفتم مرتبه بکوپد استغفار اللہ و پنجاه مرتبه
 بکوپد لا حوال و لا قوّۃ الا لالہ و پنجاه مرتبه لا کلام لالہ و
 و خدّه لا کشمیر نیک کله و پنجاه مرتبه صلی اللہ علی النبی
 الاصغری و الیه هر چون این عمل را بجا آورد و از جای خود نخواهد
 با خدا اور از آتش جهنم کرو اگر و اند و نمازش قبل کند و در
 مستحب بگرداند صاحب تجربه پایین ذیادتی تعلیم نموده و پیاز فر
 او را و پدر و مادر اور او بنویسید برای او بھر جس فی شهرے
 و عطا کند اور انواع پرکن نماز کر و باشد در مسجد پائی
 جاسع انصار اذابنیا علیہ السلام و صاحب وضه
 کلاذ کار از حضرت رسول م روایت کرد که که در روز
 جمعه بعد از نماز عصر و درگعت نماز کند و بخوانند و در هر گفت بعد
 از حمد هر کیم از آیة الکرسی و قفل ہو اللہ احمد و قفل اعوذ برب
 بست و پنج بار و چون فارغ شود پنج بار بکوپد لا حوال و لا قوّۃ

لَكُمْ يَا أَيُّهُ الْمُعَظِّمُونَ
 نَرُونَا وَنَرُونَيْتُمْ
 أَكْرَمُ شَبَابَ الْأَرْضِ
 بَادِئَتْ بِهِتَّةً
 سَارَ حَوَابَهُ وَبَنَى بَيْدَ مَكَانَ
 أَوْ رَأَيَأَهُ وَبَرَثَتْ مَشِيدَهُ
 جَعْفَرُ الْوَسِيْرِ رَجَدَ مَصَاحِبَ
 لَعْبَدَ ازْنَازَ عَصْرَ سَخْنَاءِ
 اَنَّدَ اَفْضَلَ خَوَاهِ بَوْدَ وَسَيِّدَ بْنَ طَائِسَ رَحَاهِينَ
 دَعَارَ الْبَشَّاشَ اَسْنَادَ ذَكْرَهُ
 لَعْبَسَهُ اَنَّهَارَ اَدْكَنَابَ اَفَانِيَّةَ الدَّائِرَةِ
 وَلَعْبَسَهُ اَنَّهَارَ اَدْكَنَابَ مَنْجَعَ الدَّعَوَاتِ وَلَيْنَ دَعَارَ تَعْقِيْبَ
 عَصْرَ كَذَرَشَتْ نَمَازَدَ دِيْكَرَ سَيِّدَ بْنَ طَائِسَ رَجَالَ الْبَيْعَ
 اَنْ حَضَرَتْ اَمَامَ حَسَنَ عَسْكَرِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَصْرَدَهُ كَمُوقَتٍ
 اَنْ طَلَوْعَ آنْ قَاتَبَ نَمَازَ وَالْآنَ حَپَارَ كَعْتَ اَسْتَ بَنْجَوَانَدَ
 صَهْرَ كَنْتَهُ فَاسْتَحْمَلَ اَكْتَابَ وَتَحْمَ سَجَدَهُ دَاخِلَ فَرَمَادَ اوْلَ خَدَّا
 تَعَالَى اَدْرَبَتْ خَوَدَ شَفِيعَ بَگَرَدَانَدَ اوْ رَادَ اَهَلَ بَتَّ اوْ وَ
 اَنْكَهْدَارَدَ اوْ رَادَ اَزْقَارَ قَبْرَ وَهَوْلَهَاَرَےْ رَوزَ قِيَامَتْ نَمَازَ
 دَ دِيْكَرَ شَيخَ وَسَيِّدَ لَبَدَ مَعْتَرَ اَنْ حَضَرَتْ اَمَامَ حَبَّرَ صَادَقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 رَوَاهِيتَ كَرَدَهُ اَنَّدَهُ چَوَنَ رَوزَ جَمِيعَ شَوَّدَ وَرَكَعَتْ نَمَازَ بَکَنَ وَدَهَ
 هَرَكَعَتْ سَوَرَهُ حَمَدَ رَأَيَكَ مرْتَبَهُ بَنْجَوَانَ وَسَوَرَهُ لَوْهِدَ رَأَيَ
 شَصَتْ مَرْتَبَهُ بَنْجَوَانَ وَچَوَنَ بَکَوَعَ روَهِيَ بَگُوْبَهْهَانَ سَرْقَيِ الْعَظِيلَوَ
 وَلَيْحَمَدِيلَهَا سَرْتَبَهُ بَاهَفَتْ مَرْتَبَهُ وَچَوَنَ بَسِيجَهُهِ رَوَهِيَ بَگُوْبَهْهَانَ لَكَ

سوادی و خیالی دامنِ بک قوادی و آبوعلیکش بالتع
 و اعترف لک کیل الذئب العظیم عیملت سوء و ظلمت
 نفسی فاغفرلی ذُلُون فانه لا یغفر اللذوب لا آنت
 آخوڈ یغقول من عقوباتک و آخوڈ یرخصتک
 من نعمتک و آخوڈ یرضتک من سخیلک و کنوز
 بک میلک آن بلکه مذحتک و کام خیلی یغضتک
 ولا الشاء عليك آنت کما آنت علی نفسی
 عیملت سوء و ظلمت نفسی فاغفرلی ذُلُون
 لا شه لا یغفر اللذوب لا آنت راوی گفت وہ
 تو شوم در کدام ساعت روز جمیراں نماز را بکنم فرمود کہ پوچ
 روز بلند شود تازوال پس فرمود کہ ہر کہ این نماز را بکنند چنان
 کہ قرآن را چھل مرتبہ ختم کر دہ باشد سید بن طاووس
 در مجال الاسبوع آور دکہ آمد مردے از اعراب پیش حضرت
 رسالت پناہ م گفت پر و ما درم فدا سے توب او یا رسول الله
 می باشم دراین باوریه و رساندیمه و نمیتوانیم کہ نزد تو پایا یم در جمیر
 دلالت کن ما را بعلج دران قضیلت نماز جمیر باشد و چون
 بروم بجانب اہل خود ایشان را بخوبیم با آن حضرت م فرمودند

امیر کاہ بلند شود و عزیز پس در رکعت نماز بگذار و بخوان در رکعت اول
 الحمد لله ربک مرتبه و قل اخوذ برب القلوب هفت مرتبه و در رکعت دوم
 الحمد لله ربک مرتبه و قل اخوذ برب الناس هفت مرتبه و چون سلام
 و بخوان آنکه الکرسی هفت مرتبه بعد ازان برخیز لپس بگذار
 هشت رکعت را بروسلام و غشیم و رهبر در رکعت ازان با نکره
 سلام بگوی و بخوان در هر رکعه الحمد لله ربک مرتبه و اذاجار فصل
 والفتح کیک مرتبه و قل هوا الله احده است و پنج مرتبه و چون از نماز
 فاغر شوی هفت مرتبه این دعا بخوان یا سعی یا قیو و ریا
 ذالجلالی و لا لا لا و یا لا
 لا
 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
 یا سرت
 یا سرت یا سرت یا سرت یا سرت یا سرت یا سرت یا سرت
 یا سرت صلی علی محمد وآلہ واعفیزی و ذکر کیفیت
 خود را و بگو لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَكُمْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
 هفتاد مرتبه سینه کان الله العرش الکرایر هفتاد مرتبه
 قسم زیارت که بیوٹ ساخته است مراور گزیده است
 مراجعت کر زیست پیغ موسمند و مومنه که بگذار و این نماز را

در روز جمعه و یک پیش از نماز مگر اسکن چشم از برآسے
 او پیشتر را دیده بود که خیر داده باشد تا آنکه نمایم و شورا را
 براسته او گذاشت این را دیده بود که خوب است این آنها و
 عطا کند او را خدا بنتے توانسته لذت برد هر که نماز گزارده باشد
 این روز در شهر را بسته سلیمان و لاشته شود از برآسے او را
 هر که نعوذ و لاشته باشد و تمام کرده باشد در آن روز مشاور قریبین و
 مشاور این و عطا کند او را خدا بنتے توانسته خیر که کمیچ شپشی
 ندیده باشد و هیچ گوشی نشاند و نشیده باشد علامه جملی
 مگا گویند که این نماز را در طریق شیوه پسند معتبر نماید ام و نافرای
 چهار رکعت بیک سلام کروں مخالفت اخبار دیگر است و
 نه ابرآنکه بسیار مشهور است اگر کسے نباشد هر کسی که نباشد
 نباشد و اگر بجای آن نماز هم کسی که بسند هم بسته و
 شده اند بکند افضل و احاطه است و اثرا علم ننمای
 شد پیشک کمیست است نماز کامل در کتاب است که روز آن حضرت
 آورد که هر که بکند از دو روز و روز جمعه پیش از نماز بعنی پیش از زوال
 پیش از رکعت نماز و بخوانند و هر کسی که نباشد فاتحه الكتاب ده مرتبه
 و قل اعوذ بر رب الناس ده مرتبه و قل ہوالمدد ده مرتبه و قل

اخو فریت الفقیح و مرتبه و قتل بایا کافرون و مرتبه و ایت الکری
 و مرتبه و در روایت دیگران از زمانه فی لیلۃ القدر و مرتبه و آیه
 سیمین آنها که تکالله لا ہو را مسلا عکش و اول الطیع
 قایمای القسط لا کله لا ہو العیز و الحکیم و ان الدین
 بعثت الله ایه مسلا و ما اختلف لذین اوقا الکتاب
 که من یغد مأجوعہم العلیع بعیا بینہم و من یکفر
 بیان الله و کان الله سریع الحساب و مرتبه و چون ان ناز فارغ
 شود استغفار کند صدر مرتبه بعد از آن بگوید سبحان الله و الحمد
 لاله و لا کله لا الله و الله اکبر و لا حوال دلکو و هلا الا الله
 العظیم صدر مرتبه و صلوات پسر صدر مرتبه بعد از آن همه
 که برکه بگذرد و آین ناز را او گوید ای چه لفته شد و فکه کند خدا سے قیام
 از و شرام آسان وزین و شر شای طین و شر هر باد شاه جابر و
 برکه و از برآسے او منتها و حاجت در دنیا و هنها و حاجت در
 آخرت و نیز در کتاب مذکور آورده که در روز جمعه چهار کعبت
 ناز بگذرد و بخواهد در هر کعبت فاتحه اکل کسب هفت مرتبه و ایت
 از زمانه فی لیلۃ القدر کیم مرتبه و فصل کند رسیان آن السلام
 لفتن و چون فارغ شود بگوید اللهم صلی علی محمد وآل

حَمْدُكَ اللَّهُمَّ صَدِّقْ مَرْتَبَةَ الْأَنْوَافِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ صَاحِبِ الْجَمَاعَةِ
 عَطَاكَنَدَ اور اخذ اسے تھا لے ہفتاد ہزار قصر درجہ شیخ قبری
 ہفتاد ہزار سرا درجہ سرای برہنگتا و ہزار خانہ درجہ خانہ ہفتاد
 ہزار کتیر نیز در کتاب مذکور آور وہ کل روز جمعہ چهار رکعت نماز کل
 و بخواند درجہ رکعۃ المحمد و قل هشوا اللہ احبل پنجاہ درجہ
 نیز در ٹاؤن قیک بینید جائے خود را در ہشت نماز ہڈایہ
 چهار دوہ سعصوم علیہم السلام شیخ طوسی در کتاب رصباح تہجید
 از ائمۂ علیہم السلام آور وہ کہ ہر کہ بگزار و در روز جمعہ ہشت
 رکعت نماز چهار رکعت را ہر یہ کند بجانب رسول خدام و چهار
 رکعت را ہر یہ کند بجانب فاطمہ علیہما السلام و در روز شنبہ
 چهار رکعت را ہر یہ می کند بجانب حضرت امیر المؤمنین
 و چهارین ہر روز چهار رکعت را ہر یہ می کند بجانب یکی از ائمۂ
 علیہم السلام تار و روز چیزی کہ چهار رکعت را وہاں ہر یہ می کند
 بجانب حضرت امام جعفر صادق ع و در روز جمعہ نیز ہشت رکعت
 است چهار رکعت را ہر یہ می کند بجانب رسول خدام و چهار رکعت
 ہر یہ می کند بجانب فاطمہ علیہما السلام و این دعا را بعد از ہر دو
 رکعت ازان بخواند اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَلَمُ وَمِنْكَ الْعُلُومُ